

سورة المجادلہ تم من وھی ثنتان عشر وانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن (دو رحیم خدا کے نام سے) شروع کرتا ہوں

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي

بیشک اللہ نے اس (عورت) کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں

زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوِرَكُمَا

بمکڑائی ہے اور خدا کی حضور میں شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سنا رہا ہے

لَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝ الَّذِیْنَ يَظْهَرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ

یقیناً اللہ بڑا سننے والا (اور) بڑا دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار

نَسَاءِهِمْ مَّاهُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِنَّ اُمَّهَاتَهُمْ لَآلِیٌّ ۝

کہتے ہیں وہ انہی مائیں نہیں ہوتیں۔ انہی مائیں اور مرن وہی ہیں جنہوں نے انکو

وَلَدْتُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُولُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا

جناہ ہے اور ضرور ایسا کہنے والے بیہودہ بات (کہتے) اور جھوٹ بیگنے ہیں

وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ وَالَّذِیْنَ يَظْهَرُوْنَ مِنْ

اور ضرور اللہ بڑا مہربان کرنے والا (اور) بڑا بخیر والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے

نَسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ


پھر وہ جو کچھ کہتے ہیں اسکا تدارک کرنا چاہیں تو قبل اسکے کہ دو نو مبارکت کریں

قَبْلِ اَنْ يَّتِمَّ اَسْوَءُ الَّذِیْنَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا

ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم لوگ اسے ذریعے سے بیعت کی جا رہے کہ تم پر ایسا نہ کرو اور

تَعْمَلُوْنَ خَيْرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ مِّنْ سَبْعِیْنَ

جو کچھ اچھا کرے وہی بہتر ہے۔ پھر جسے یہ چیز نہ ہو تو قبل اسکے کہ دونوں مہمانت کریں (ظہار کرنے والوں)



Vertical text on the left margin containing various religious and legal notes in Urdu, including references to 'مجادلہ' and 'سورة المجادلہ'.

Vertical text on the right margin containing various religious and legal notes in Urdu, including references to 'مجادلہ' and 'سورة المجادلہ'.

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ سَاءَ مَسْجِدٍ

کے ذمے اور جیسے کہ تمواتر روز رکھنا ہے پھر جس سے یہ ممکن نہ ہو تو اس کے ذمے) ساتھ مسکینوں کا مکان

مَسْجِدًا ذَلِكُمْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ

کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرو اور پھر ایمان لے لو (مترجم کی ہوتی)

اللَّهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ

کفر میں اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت

وَرَسُولَهُ كَبِتُوا كَمَا كَبَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا

کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کر جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کر چکے ہیں جو ان کے پہلے ظلم کرنے والے تھے (مترجم کی ہوتی)

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ

آسمانی ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت دینے والا عذاب (تیار کیا) ہے جس میں ان سے اللہ ان سب کو

اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَمْ حَسِبُ أَنَّ اللَّهَ

بسوخت فریادگا پھر چاہے کچھ یہ کہے ہیں اس کا گواہ کرے گا۔ اللہ نے تو انے اعمال شمار کر لیا ہے اور

وَأَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

انکو معلوم کرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جو چہ کرے

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى لِمُذْمَبٍ إِلَّا هُوَ

انکو (ہی) اللہ میں جو کچھ ہو اسکو (بھی) جانتا ہے کسی راز میں تین ایسے (شریک) نہیں ہوتے کہ وہ خود انکا

رَاعِيَهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدِئِي مِنْ ذَلِكَ

جو تھا نہ ہو اور نہ پانچ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انکا چھٹا نہ ہو اور نہ اس کو چھ ہونے میں اور

وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا إِثْقَابًا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ

نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ جاں کہیں بھی) وہ ہوں وہ خود انکو پاس ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی یاد دہ کرے گا

عَلُوًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

قیامت گردن دہ انکو جلائیگا۔ بیشک خدا تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے

میں جو اللہ کے ساتھ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ ان کو چھٹا نہیں ہوتا اور نہ اس کو چھ ہونے میں اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ جاں کہیں بھی) وہ ہوں وہ خود انکو پاس ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی یاد دہ کرے گا۔ اللہ نے تو انے اعمال شمار کر لیا ہے اور انکو (ہی) اللہ میں جو کچھ ہو اسکو (بھی) جانتا ہے کسی راز میں تین ایسے (شریک) نہیں ہوتے کہ وہ خود انکا چھٹا نہ ہو اور نہ اس کو چھ ہونے میں اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ جاں کہیں بھی) وہ ہوں وہ خود انکو پاس ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی یاد دہ کرے گا۔ اللہ نے تو انے اعمال شمار کر لیا ہے اور انکو (ہی) اللہ میں جو کچھ ہو اسکو (بھی) جانتا ہے کسی راز میں تین ایسے (شریک) نہیں ہوتے کہ وہ خود انکا چھٹا نہ ہو اور نہ اس کو چھ ہونے میں اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ جاں کہیں بھی) وہ ہوں وہ خود انکو پاس ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی یاد دہ کرے گا۔

نَهَا عَنِ النُّجْوَى ثُمَّ يَعْوَدُ وَنَ لِمَا نَهَى عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ

جو سرگوشی کرنے سے روکے گئے پھر جس بات سے روکا گیا وہی کرتے ہیں اور گناہ کے بارے میں

بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ

اور زیادتی (کے بارے) میں اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں آپس میں کاناپھوسی کرتے ہیں اور (اکڑال

حَتَّىٰ تَخْرُجَ بِمَالِكٍ بِكَ إِلَهُ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا

جب وہ نہ مارے یا اس آئی ہیں تو گواہی کے لیے سلام کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا اور انہوں نے یہ نہیں

يَعِزُّنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَحَسِبْنَاهُمْ كَهَمٍّ يَصِلُونَهَا فَيَسْ

جوچہ ہم کرتے ہیں اگر ہم میں خدا کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کی لہجہ گمانی ہے جیسا کہ وہ جانتے اور وہ بہت ہی

الْمُصَدِّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَّجِرُوا

ٹھکانا ہے۔ اے ایمان لائے والو! جب تم کاناپھوسی کرو تو گناہ اور زیادتی

بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَّجِرُوا بِاللَّيْلِ

اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں کاناپھوسی نہ کیا کرو ہاں نیکی پر بیزار کاری کرو

وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٦٦﴾

بار میں کاناپھوسی کیا کرو اور اس اللہ سے ڈرو جو جس کی صورت میں تم جاؤ گے سوائے اسکے نہیں رہی

الْبُغْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَائِلِهِمْ

کدہ بی گواہی میں کاناپھوسی شیطان کی طرف سے ہو تاکہ مومنین پر رنجیدہ ہوں حالانکہ انہیں شہادت خدا کو وہ ان کو

شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٧﴾

کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور مومنین کو صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

اے ایمان لائے والو! جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنے جلسوں میں نکال دو اور نہ بٹکاو اور نہ بٹکاو

فَاصْبِرُوا يَأْتِيَنَّكُمْ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ فَانصَبُوا

اللہ بھی تمہارے لیے نفاذ کی فرمادے گا اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اور نہ بٹکاو

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'حاشیہ' (margin) written vertically.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

اللہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے بہت درجے بلند فرادے گا۔

وَرَجَّتْ وَاللَّهُ يَتَعَلَّمُونَ خَيْرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

اور جو مجاہدیں تم عمل کرنے ہو خدا تمہارے اُس کو خیر دے گا۔ اے ایمان لائے والو! جب تم

تَلَجِمُوا الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَّابِينَ يَدِي تَجْوَاكُمْ صِدْقَةٌ

رسول سے ملو گی میں تم کو من کرنا چاہو تو اپنے اس غلبے کو پہلے کچھ صدقہ دیدیا کرو۔

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنِ اللَّهُ غَفُورٌ

یہ تمہارے لیے بہتر (بھی ہے اور زیادہ پاک کرنا والا بھی) پھر تم کو اگر یہ میسر نہ ہو تو ضرور اللہ بخیر ہے والا

رَحِيمٌ ؕ أَشْفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدِي تَجْوَاكُمْ

بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم اس کو ڈر کر اپنے غلبے کرنے سے پہلے کچھ صدقے دیدیا کرتے۔

صَدَقْتُمْ فَاذَلُمْتُمْ تَفْعَلُوا أَوْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا

اب چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ سے (مجھ سے) تمہاری توبہ قبول کر لی تو اب قاعدہ

الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

ناظر رہتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کی جاوے۔ اور جو ان کی تم

بِمَاتِعْمَلُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ

کری ہو خدا تمہارا اُس کو باخبر ہے۔ کہنے انہی طرف خیال نہیں کیا یا اللہ لوگوں کو دوستی رکھتے ہیں یہ غلط ہے

عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ

غضبناک ہوا ہے۔ نہ وہ تم ہی میں سے ہیں اور نہ انہی میں سے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَمْرًا نَّهَمُّ

ملنے انہا کو ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ بیشک چل

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَاتُخَذُوا أَيْمَانًا جَسَدًا

ہو کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔

ہو کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the page number ۸۶۸ and the title 'الحجۃ'.

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the main text.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

فَصَدَّقُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَكُفِّرُوا عَنْ عَذَابِ مُهَيَّنٍ ۝ كُنْ

اور لوگوں کو راہِ خدا سے باز رکھا ہے میں اُنکے لیے زنت دینے والا خدا ہے تیار ہے۔ (عذاب)

تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ

خدا سے بچانے کے لیے ان کے مال اور اولاد کا کام آئے اور نہ ان کی اولاد

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَوْمَ

وہی ہوتی ہیں۔ (اور) وہی اُس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور وہی وہی ہوں گے جس دن

يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعًا يَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ ۗ

اللہ تعالیٰ انکو ایک لمحہ سمیٹ کر پھر تو یہاں کے ساتھ ہی اسی طرح ہر قسم کا پتہ دے گا جیسے کہ تمہارے

يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ

سائخلف اُنکے ہوں اور کمان یہ کہیں گے کہ وہ کچھ تو آتی ہیں بغیر اہرہ کہ وہ لوگ ضرور بالضرور مجھوں میں

لَا يَسْتَعِذُّونَ بِهِمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ۖ فَانسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۗ

شیطان اُن پر غالب آگیا ہے اور اُنکو یادِ خدا بھلا دی ہے۔

حِزْبِ الشَّيْطَانِ ۖ الْآلَانَ حِزْبِ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۖ

شیطان کا گروہ ہیں خبردار رہنا کہ شیطان کا گروہ وہی تو ہوتا اُنکا نیوالے ہیں۔

لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَلْقٍ لَّهُمْ آيَاتٌ وَلَٰكِن لَّا يُفْقَهُونَ

شیک جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں سب کے زیادہ ذلیلوں

أُولَئِكَ لَئِن كَانُوا يَرَوْنَ آيَاتِنَا لَآ يَأْتِيَهُمْ بَأْسًا ۖ

میں وہی ہیں یہ تو اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور بالضرور غالب ہیں یقیناً اللہ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۖ لَا يَتَذَكَّرُ قَوْمًا يَوْمِنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

توت والا (اور) زبردست ہے۔ تم اُن لوگوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اس پر

الْآخِرِينَ ۖ آذُونَ مِّنْ جَادِ اللَّهِ ۖ وَرَسُولُهُ ۚ وَلَوْ كَانُوا

لوگوں کو دوسری کرتے زیادہ کے جنہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کی ہے تو وہ اُن کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَتْ فِي قُلُوبِهِمُ
پس عذاب نازل ہوا ان پر اس طرح آیا جس طرح انکو گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں ایسا

الرَّعْبَ يَجْرِبُونَ بِيوتِهِمْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے اور تمہیں ان کے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۚ وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ
تو اسے آنکھوں والو! عبرت لے لو۔ اور اگر خدا تمہارے لئے ان کی نرا جلا وطنی

عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَآلِهِمْ فِي الْآخِرَةِ
نہ لکھ دی ہوتی تو اس دنیا میں بھی انکو عذاب دیتا۔ اور آخرت میں تمہارے لئے

عَذَابُ النَّارِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
عذاب نوزخ موجود ہی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اسے رسول کی مخالفت کی۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
اور جو اللہ کی مخالفت کریگا تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ عمدہ

قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْ مَا قَامِيَةً عَلَىٰ أَسْوَابِهَا
خزے کے درختوں میں سے جو تم نے کاٹ ڈالا یا جسے اُسکی چوڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا

فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيْجْزِي الْفَاسِقِينَ ۚ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ
تو یہ خدا کی حکم سے تھا اور اس لیے تھا کہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اور جو مال حق تھا انہوں نے اپنی طرف سے

رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
ان لوگوں سے بغیر اسے عنایت کیا ہے تو اس پر تم نے گھوڑے دوڑانے میں نہ اونٹ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ رِسَالَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے سسط فرما دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر (پوری پوری)

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
قدرت رکھنے والا ہے۔ دیہات والوں کا جو مال اللہ نے اپنی طرف سے رسول کو بیرون جاؤ عنایت کیا

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including phrases like 'بہتر ہے کہ اس میں...', 'اللہ تعالیٰ...', and 'میں نے یہاں...'

Handwritten marginal notes at the top of the page, including phrases like 'بہتر ہے کہ اس میں...', 'اللہ تعالیٰ...', and 'میں نے یہاں...'

Handwritten note in a box on the left side, containing the word 'تکرار' (repetition).

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including phrases like 'بہتر ہے کہ اس میں...', 'اللہ تعالیٰ...', and 'میں نے یہاں...'

Handwritten notes at the top of the page, including the title 'الحشر' and the page number '۸۷۲'.

قل سمع الله

۸۷۲

الحشر

قُلْ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ

وہ اللہ کا ہے اور رسول کا (اللہ رسول کے) قربت مندوں کا اور (آپس کی) یتیموں اور مسکینوں

وَابْنِ السَّبِيْلِ كِي لَا يَكُوْنَ دُوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

اور مسافروں کا تاکہ وہ مال فہشت (تمہاری دولت مندوں کو مابین چلے لکھا ماننا پھرے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِالرَّسُوْلِ فَاْخَذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ

اور رسول جو تم کو دینے سے تو سیدو اور جس سے تم کو باز رکھیں (اس سے)

فَاَنْتَهُمْ اِنَّهٗمْ اَتَقَوْا اللّٰهَ طٰمَنًا اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

باز رہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

لِلْفُقَرٰءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

نیز (یہ مال تم) ہجرت کرنے والوں میں سے ان ضرورتمندوں کا حق بھی ہے جو اپنی گھروں سے نکالے گئے اور انہوں

يَتَّبِعُوْنَ فُضْلًا مِّنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ

جو بھی (اللہ کی) کوئی نام خدا تعالیٰ کی فضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں اور اللہ اور اسے رسول کی

رِسُوْلَةٍ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ

نفرت کو جاتی ہیں وہی تو سچے ہیں۔ اور (ان کا حق بھی ہے) جو ہجرت

تَبَوُّوا الدّٰرَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هٰجَرَ

کرنیوالوں کے پہلے سے دار ہجرت میں مقیم اور ایمان پر قائم ہیں اور جو انکی طرف ہجرت کر کے آئے

لِيَهُمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حٰجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا

انہیں ہجرت رکھتی ہیں۔ اور جو کچھ ان ہجرت کرنیوالوں کو دیا جائے اس کی اپنے دلوں میں خواہش

وَيُوْتُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

نہیں پائی اور گو انہیں خود ضرورت موجود ہوتی اور وہیں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور

مَنْ يُّوقِ شَعْرَةَ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَالَّذِيْنَ

جو شخص اپنے نفس کی سرسبز کر جائے گا یا جو کسی کو (دوہری پوری) خلع پائیے اور اس میں (اور اللہ تعالیٰ کی)

Extensive handwritten commentary on the right side of the page, including a large triangle with the word 'مَنْ' inside.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

ان مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ آئے کہ ان کے ہم سے پروردگار تو ہمارے گناہوں اور ہماری

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

پہلے لوگوں کے گناہوں کو جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے بخشدے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں

أَمْثَارِ تَبَايُرَاتِكَ رِءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

کی عورتوں کی مینہ نہ رہنے سے ہے ہاری پروردگار جبیک تو پڑا مہربانی کرنا والا اور ہر آدمی کو نہوالا ہے۔ کیا تم ان لوگوں

تَأْفِقُوا يَقُولُونَ إِخْوَانَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

کی طرف نظر نہیں کی جو اہل کتاب میں ہونے کا فر ہو جائیو اور ہماریوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم نکالے گئے

الْكِتَابِ لَنْ أَخْرَجَكُمْ لَنْفَرَجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَضِيعُ فِئْتَكُمْ

تو ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ بھیجیں اور تمہاری ہاریوں میں ہماری کی اطاعت

أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ

نہیں کرینگے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ضرور بالضرور ہم تمہاری مدد کریں گے مالا نکلا کہہ گواہی دیتا ہے کہ جنہوں نے

لَكَذِبُونَ ۝ لَنْ أَخْرَجُوا وَلَا يَحْرِجُونَ مَعَهُمْ ۝ وَلَئِنْ

جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ آئے ساتھ نہ بھیجیں اور اگر ان سے

قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ ۝ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولِيَنَّ

لڑائی ہوئی تو یہ انکی مدد نہ کریں گے۔ اور اگر انہوں نے انکی مدد میں انکی تو ضرور بالضرور پھرتے

الْأَدْيَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝ لَا أَنْتُمْ أَشِدَّاءُ رَهَبَةٌ

بھاگنے۔ اور پھر انکی کوئی مدد نہ کی جائیگی۔ ان کے دلوں میں خدا سے زیادہ تمہارا

فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

خوف مجھا پھرا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ وَرَائِهِ

یہ کہتے ہیں کہ تم سے ہمیں نہ لڑنیے سوائے اس کے کہ کھنواستیں ہیں انہوں نے انہوں کے پیچھے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اور ان کے ہم سے پروردگار تو ہمارے گناہوں اور ہماری', 'ان مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ آئے کہ ان کے ہم سے پروردگار تو ہمارے گناہوں اور ہماری', 'پہلے لوگوں کے گناہوں کو جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے بخشدے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں', 'کی عورتوں کی مینہ نہ رہنے سے ہے ہاری پروردگار جبیک تو پڑا مہربانی کرنا والا اور ہر آدمی کو نہوالا ہے۔ کیا تم ان لوگوں', 'کی طرف نظر نہیں کی جو اہل کتاب میں ہونے کا فر ہو جائیو اور ہماریوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم نکالے گئے', 'تو ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ بھیجیں اور تمہاری ہاریوں میں ہماری کی اطاعت', 'نہیں کرینگے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ضرور بالضرور ہم تمہاری مدد کریں گے مالا نکلا کہہ گواہی دیتا ہے کہ جنہوں نے', 'جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ آئے ساتھ نہ بھیجیں اور اگر ان سے', 'لڑائی ہوئی تو یہ انکی مدد نہ کریں گے۔ اور اگر انہوں نے انکی مدد میں انکی تو ضرور بالضرور پھرتے', 'بھاگنے۔ اور پھر انکی کوئی مدد نہ کی جائیگی۔ ان کے دلوں میں خدا سے زیادہ تمہارا', 'خوف مجھا پھرا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔', 'یہ کہتے ہیں کہ تم سے ہمیں نہ لڑنیے سوائے اس کے کہ کھنواستیں ہیں انہوں نے انہوں کے پیچھے'

عین

جنگ

عین

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including phrases like 'اور ان کے ہم سے پروردگار تو ہمارے گناہوں اور ہماری', 'ان مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ آئے کہ ان کے ہم سے پروردگار تو ہمارے گناہوں اور ہماری', 'پہلے لوگوں کے گناہوں کو جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے بخشدے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں', 'کی عورتوں کی مینہ نہ رہنے سے ہے ہاری پروردگار جبیک تو پڑا مہربانی کرنا والا اور ہر آدمی کو نہوالا ہے۔ کیا تم ان لوگوں', 'کی طرف نظر نہیں کی جو اہل کتاب میں ہونے کا فر ہو جائیو اور ہماریوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم نکالے گئے', 'تو ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ بھیجیں اور تمہاری ہاریوں میں ہماری کی اطاعت', 'نہیں کرینگے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ضرور بالضرور ہم تمہاری مدد کریں گے مالا نکلا کہہ گواہی دیتا ہے کہ جنہوں نے', 'جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ آئے ساتھ نہ بھیجیں اور اگر ان سے', 'لڑائی ہوئی تو یہ انکی مدد نہ کریں گے۔ اور اگر انہوں نے انکی مدد میں انکی تو ضرور بالضرور پھرتے', 'بھاگنے۔ اور پھر انکی کوئی مدد نہ کی جائیگی۔ ان کے دلوں میں خدا سے زیادہ تمہارا', 'خوف مجھا پھرا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔', 'یہ کہتے ہیں کہ تم سے ہمیں نہ لڑنیے سوائے اس کے کہ کھنواستیں ہیں انہوں نے انہوں کے پیچھے'

الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

(والہی) کا ماباب تو وہی ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی ہاڑ پر

عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ

آمارتے تو تم اٹھو خوف خدا سے لرزتا اور پھٹتا دیکھ لینے۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

اور یہ مثالیں ہم کل آدمیوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ

وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چھپی اور کھلی کا جاننے والا

وَالشَّهَادَةِ ۗ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۗ هُوَ اللَّهُ الَّذِي

وہی رحمن (اور) رحیم ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جس کا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے۔ پاکیزہ ہے۔ صاحب سلامتی ہے۔ امن عطا فرماتا ہے۔

الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

تکبہائی کرنا ہے۔ زبردست۔ حکم چلائی والا (اور) سب سے بڑا ہے۔ جن جن چیزوں کو لوگ شریک قرار دیتے ہیں

يُشْرِكُونَ ۗ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ

ان سب اللہ کی ات) منزہ ہے۔ وہ اللہ بنائی والا پیدا کرنا والا (اور) صورت عطا فرمائی والا ہے۔ کل

الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ ۗ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کی تسبیح کرتا ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ

اور وہی زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

سورة الممتحنة مكية هي ثلث عشرة آية

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'بسم الله الرحمن الرحيم' at the top and various religious and philosophical reflections.

۳۶



Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the text.

بَيْنَكُمْ وَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ

فرادہ کیا۔ اور جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس کا بخیر بینی والا ہے۔ تمہاری لیے ابراہیم اور ان لوگوں (کی باتوں)

أَسْوَأَ حَسَنَةٍ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا

میں جو ان کے ساتھ تھے اچھا نمونہ موجود ہے۔ جس وقت کہ انہوں نے اپنی قوم

لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءُ وَآمِنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

سے یہ کہا کہ ہم تم سے اور ان چیزوں سے جسکی تم خدا کو سوا پرست کر رہے ہو یقیناً بیزار ہیں

كُفْرًا بِكُمْ وَبَدَّابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

ہم تم سے علحدہ ہو چکے اور جب تک تم

أَبَدًا حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ لَا اقُولُ بِإِبْرَاهِيمَ كَقَوْلِهِ

خدا نے یقیناً پر ایمان نہ لے آؤ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کھلم کھلا دشمنی اور عداوت

لَا سَتُغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَّا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ

ظاہر ہوئی مگر ابراہیم کا اپنے بچے سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور کرونگا اور پیروی کو قابل

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

میں ہی اسکو تمہارا لیڈر کی صورت میں یہ لگوئی اختیار نہیں کرے گی تاکہ پروردگار تمہاری توجہ نہ کرے اور تمہاری توجہ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآخِرُ رُسُلِنَا

کی اور تمہاری ہی صورت میں بازگشت ہوگی۔ ای ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو گئے ہیں (ذکر)

رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ

آزمائش نہ بنا۔ اور تمکو بخشدے۔ ای تمہاری پروردگار تو ضرور زبردست اور حکمت والا ہے۔ بیشک تمہارے لیے

فِيهَا أَسْوَأُ حَسَنَةٍ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

ان لوگوں (کی باتوں) میں اچھا نمونہ موجود ہے (مگر) اس کو یہی جو اللہ کی اور قیامت کو دن کی امید رکھتا ہے

الْآخِرَةِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور جو وہ لوگوں کا تو اللہ ہی ضرور بے پروا (اور) قابل تعریف ہے۔

Handwritten notes at the top of the page, including 'ببینوا انہو انہو انہو' and other religious commentary.

Vertical handwritten notes on the left side of the page, providing commentary on the verses.

Handwritten text in a box on the left side, possibly a title or specific note.

Vertical handwritten notes on the left side of the page, continuing the commentary.

Handwritten notes at the bottom of the page, including 'اللہ تعالیٰ کے نام سے' and other religious text.

وَأَتَوْهُمَا مِمَّا آتَفَقُوا عَلَيْهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ

عورتوں (کے) مسائل ہیں۔ ہاں جو کچھ وہ خرچ کر سکیں ہوں تم ان کو دیدو۔ اور اس میں تم پر کوئی الزام نہیں

تَتَّخِذُوهُنَّ إِذَا تَتَمَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا

کہ تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کے نہر دیدو۔ اور کافر عورتوں کو تم اپنے

بِعِصْمِ الْكَوَا فِرْ وَسَلُّوْا مِمَّا آتَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْتُمْ

نکاح میں نہ رکھو اور جو کچھ تم خرچ کر چکے ہو وہ (اُسے) مانگ لو اور جو کچھ وہ خرچ کر چکی ہیں تم سے

ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حُكْمِ بَيْنِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

مانگ لیں۔ خدا کا فیصلہ یہی ہے۔ وہ تمہارے مابین حکم دیتا ہے۔ اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔

وَأَنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا قَبَلْتُمْ

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کی طرف چل جائے پھر تمہارا

فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا آتَفَقُوا

پہلے نصیحت تمہاری ہاتھ آئی تو جن لوگوں کی عورتیں چل گئی ہوں ان کو (مساہلت نصیحت میں) اتنا دیدو جتنا

وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

وہ خرچ کر چکے ہوں۔ اور اہل اللہ سے ڈرنے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی!

لَا إِجْرَاءُكَ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا بَيْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ

جب ایمان لائیاں عورتیں تمہارے پاس اس شرط پر تمہاری بیعت کرنے آئیں کہ نہ کسی چیز کو اللہ

بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يُقْتَلَنَّ

کاشرک قرار دیں اور نہ چوری کریں اور نہ زنا کریں اور نہ اپنی اولاد کو

أَوْ كَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهَتَّانِ يُفْتَرِيَنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

نسل کریں۔ اور نہ (اپنی شوہروں پر) اپنے ہاتھوں اور پیروں کے مابین کوئی بہتان بانڈیں

وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَمَا يَعْمُرَنَّ

(اپنی غیر کر کے) شوہر کا نہ قرار دیں) اور نہ کسی بیعت میں تمہاری نافرمانی کریں تو اہل بیعت قبول کر لو

Handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page, above the header.

لِقَوْمِهِ يَقَوْمٍ لَمْ تَوَدُّ وِتِّي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

سے کہا کہ اے میری قوم! تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو حالانکہ تم یہ جانتے ہو کہ میں

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

تمہارے لیے خدا کا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے سچی اختیار کی تو اللہ بھی انہوں کو گم کر دیا۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○ وَذَكَرَ عِيسَى

اور اللہ بدکار لوگوں کی راہبری نہیں فرماتا۔ اور (اس وقت کو یاد کرو) جبکہ عیسیٰ ابن

أَبْنِ مَرْيَمَ يَدْعِي إِسْرَائِيلَ لِيُرِيَهُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

مریم نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل! ضرور میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

توریت کی جو مجھ سے پہلے سے ہے تصدیق کرنے والا ہوں اور ایسے رسول کی خوشخبری

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا

دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیگا اسکا نام احمد ہوگا پھر جب وہ آئے پہلے

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○ وَمِن

واضح دلیلیں لیکر آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو گھلا جاو ہے۔ اور اس سے زیادہ

أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى

ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بتان باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف

الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

بلایا جاتا ہو اور اللہ نافرمان لوگوں کی راہبری نہیں فرماتا۔

بِرِيدُونَ لِيُطْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ مُبْتَدِئُ

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے (چونکہ مار مار کر) بجھا دیں اور اللہ انہیں نور کو

نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

پورا کرے اور اللہ کو کافروں کو برا لگے۔ وہ وہی تو ہے جسے اپنا رسول کو ہدایت

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'تفسیر' (Tafsir) written vertically.

تفسیر

تفسیر

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَاغُفَةً ۖ فَايُدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور ایک کافر ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے

عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبِحُوا ظَاهِرِينَ ۝

اُسے دشمنوں کو برخلاف تائید کی تھی تو وہ غالب رہے تھے۔

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مِائَتًا وَهِيَ حُلَّةٌ عَشْرَةٌ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (دو) رحیم خدا کے نام سے (مشرع کرتا ہوں)

يَسْبِقُهُ لِيَوْمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ

آسمانوں میں جو کہ ہے اور زمین میں جو کہ ہے وہ اس اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے جو بادشاہ ہے

الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي

پاک ہے زبردست ہے (اور) حکمت والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے کئے کے رہنے والوں میں

الْأَمْثَلِينَ رَسُولًا يُتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

ایک رسول انہی میں سے بھوث فرمایا جو انکو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھاتا سنا دیا اور ان کو پھر باطن

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ

کو پاک کرتا اور انکو قرآن اور شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ گو اس سے پہلے وہ

لَقِيَ ضَلِيلًا مُّبِينًا ۝ وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا

کھل کر رہی میں تھے۔ اور انہی میں سے دو سروں کے لیے بھی بھوث فرمایا ہے جو

بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

ابھی انے نہیں ملے ہیں۔ اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے

مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مِثْلُ الَّذِينَ

عنايت فرماتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a circular stamp with the text 'ایمان لانا' and '۱۶۴'.

Handwritten marginal note: 'بج'.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'ایمان لانا' and '۱۶۴'.

جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔
 جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔
 جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔

جَمَلُوا التَّوَارِيثَ تَمَّ لَمْ يَجْمُوهَا كَمَثَلِ الْجَارِ يَجْمَلُ
 تورت کے علم و عمل کا بار ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس بار نہ اٹھایا اس گدھر کی سی مثال ہے جو کتے میں

أَسْفَارًا بئسَ مثلَ القومِ الذينَ كذبوا بآياتِ اللهِ
 اٹھا کر ہوئے ہو۔ ان لوگوں کی حالت جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہو کیا ہی بری ہے

وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○ **قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**
 اور اللہ نافرمان لوگوں کی راہبر ہی نہیں فرماتا۔ تم یہ کہدو کہ اسے وہ لوگوں کو باجو

هَادُونَ لَأَن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ
 ہودی ہو گئے ہو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی خدا کا دوست ہو نہ اور لوگ تو اگر تم

فَتَمَنُّوا الْمَوَاتَانَ كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ **وَلَا يَتَمَنَّوْنَكَ**
 (اپنے اس گمان میں) سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ اور جو اعمال اپنے ہاتھ پہلے کر لیں

أَبْدَانًا قَدَّمْتُمْ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
 انہی وجہ سے یہ موت کی تمنا بھی نہ کریں گے۔ اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔

قُلْ إِن الْمَوَاتَ الَّذِي تَفْرَوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقَبُكُمْ
 تم یہ کہدو کہ وہی موت جس سے تم بھاگتے ہو تم سے ضرور ملاقات کرنیوالی ہے

ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 پھر تم کھل اور چھپی کے جاننے والی کی حضور میں پیش کی جاوے گے پھر جو عمل تم کیا کرتے تھے

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ**
 اُس سووہ تم کو آگاہ کر دیا۔ اے ایمان لانیو الو اجب لگو جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کیلئے

لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذُرُّوا
 چکار ا جائے تو تم خدا کی یاد کی طرف دوڑو اور لین دین چھوڑ دو۔

الْبَيْعِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○ **قَاذَا**
 اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ پھر جب

جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔
 جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔
 جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔

جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔
 جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔
 جمعہ کی نماز میں جو نماز پڑھے اس کی ہر ایک رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں عمل میں آجائیں۔

قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانْتَبِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

غز ختم ہو جانے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل کے

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

خواستگار ہو اور اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ

اور انہوں نے جب کوئی سوداگری یا کھیل کو دیکھی تو (وہ نیت توڑ کر) اُسکی طرف ہٹا کر لوگو

قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ

اور تم کو (ناگزیر ہوتے) کھڑا چھوڑ دو۔ تم یہ کہو کہ جو کچھ اللہ کو پاس ہے وہ اس کھیل کو اور اس سوداگری سے

التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِقِينَ ○

بہتر ہے۔ اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر (رزق دینے والا) ہے۔

سورة المنفقون من اور هل احد عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا أَنشَهُدُ نَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

جس وقت منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ضرور اللہ کے رسول ہو

وَاللَّهُ يَعْلَمُ نَكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنْفِقِينَ

اور اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ تم نیک اُسے رسول ہو۔ اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور

كذِبُونَ ○ اخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن

جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی (جھوٹی) قسموں کو سیر بنا لیا پس لوگوں کو راہ خدا سے

سبيل الله ط انهم ساء ما كانوا يعملون ○ ذلك

روکا۔ بیشک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ بہت ہی بُرا ہے۔

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

ترجمہ

ترجمہ

Handwritten marginal notes in Urdu script on the bottom left side of the page, continuing the commentary.

یہ آیتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سیکھائی تھیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازا جائے۔

سُورَةُ التَّائِبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

التَّائِبِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُولُونَ عَلٰی قُلُوبِكُمْ هُمْ لَا يَفْقَهُونَ

کہ وہ ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے اب اسکا ارکانے دلوں پر چھایا لگا دیا گیا تو وہ سمجھ بھی نہیں سمجھتے۔

وَإِذْ أَرَأَيْتُمْ نَجْمَكُم مِّنْ جِهَتِكُمْ أَتَّكَاذِبُ أَمْ تَكَاذِبُ إِذْ تُسَمِّعُونَ النَّاسَ بِأَهْوَاؤِهِمْ لَا يَنصُرُونَ اللَّهَ وَلَا رِجْسًا يَكْتُمُونَ

اور جب تم آنکھ دو دیکھو تو آنکھ دو ذیل ڈول تمکو اچھا معلوم ہو گا۔ اور اگر وہ باتیں کریں تو تم انہی باتیں

لَقَوْلِهِمْ كَا تَهْمُ خَشَبٌ مَّسْتَدَّةٌ طَّيْحَسُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ تُسْمَعُونَ

سنو گے۔ (مگر یہ علم عقل سے ایسی غالی ہیں) گویا وہ لکڑیاں ہیں جنکو دیوار کے سہارے ٹکرا کر پڑا ہوا۔ ہر چیخ کو یہ

عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَادُوْنَ فَا حَذِرْهُمْ قَاتِلْهُمْ اِنَّ فِيْ يَوْفِكُمْ زُنٰرًا

مجھے ہیں کہ انہی پر پڑتی ہے۔ وہ دشمن ہیں سو ان سے بچتے رہو۔ خدا انکو غارت کرے۔ کہہ کر بچے جاتے ہیں؛

وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّا

جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اور رسول خدا تمہارے لیے دعا کے مغفرت کریں تو وہ اپنی زبانوں کو

رُءُوْسُهُمْ وَآيٰتِهِمْ يُصَدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

پھرا لیتے ہیں اور تم آنکھ دو دیکھو گے کہ وہ متکبرانہ انداز سے منہ بھی پھرا لیتے ہیں۔

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَوْ

انکے لیے برابر ہے خواہ تم انکے حق میں دعا کے مغفرت مانگنا انکے حق میں دعا کے مغفرت نہ مانگو

لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

اللہ انکو ہرگز نہ بخینگا۔ بیشک اللہ بدکار لوگوں کی راہبری نہیں فرماتا۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تَنفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

یہ وہی تو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس جو لوگ ہیں انہیں اپنا پیسہ خرچ نہ کرو

حَتّٰى يَنْفَضُوْا وِجْهَهُمْ اِلٰى اَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِن

تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے نزلنے اللہ ہی کے ہیں لیکن

الْمُتَّقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ يَقُولُوْنَ لِيْن رَّجَعْنَا لِي

منافق (اتنا بھی) نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹ کر آئیں تو

یہ آیتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سیکھائی تھیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازا جائے۔

المدينة يخرجن الأعرس منها الأذل والله العزة و

جو زیادہ عزت دار ہے وہ مدینہ سے زیادہ ذلیل کو ضرور باغی و رنجور نکال دیتا۔ حالانکہ حقیقی عزت اللہ

لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

کی و اور اس کے رسول کی اور مؤمنین کی۔ لیکن منافق (اتنا بھی) نہیں جانتے۔

يا ايها الذين امنوا اتلوا آياتكم واولادكم

اے ایمان لایوں! تم کو تمہارے مال خدا کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور نہ

عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون

تمہاری اولاد۔ اور جو ایسا کرے وہی تو نقصان اٹھائیوا لے ہیں۔

وانفقوا من مآزقكم من قبل ان ياتي احدكم

اور جو کچھ تم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ (ہماری راہ میں) خرچ کر دو قبل اسکے کہ تم میں سے کسی کو موت

الموت فيقول رب لولا اخرجتني الى اجل قريب

آجائے پھر وہ یہ عرض کرے کہ اے میرے پروردگار! تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں

فاصدق وان كن من الصالحين وكن يؤخر الله

تصدق کرتا اور میں نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جبکہ وہ

نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون

اجل آجائگی ہرگز مہلت نہ دے گا۔ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خبردار ہے۔

سورة التغابن ثمان عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

يسر الله ما في السموات وما في الارض له الملك وله

آسمانوں میں جو چیز ہے وہ اور زمین میں جو چیز ہے وہ اللہ کی شہادت ہے۔ اس کی سلطنت اسی کی ہے اور اس کی

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and translations for the verses.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



عالم زمین سے ہمارے ایمان لانے والے ہیں اور وہ ہمیں اس کی تعریف اور ہدایت کے لئے بھیجے گا۔

قد علم الله

۸۸۸

الحمد لله وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم

كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق

السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

وإليه المصير يعلم ما في السموات والأرض ويعلم

ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور

المرياتكم نبؤ الذين كفروا من قبل لقد آووا بالأمم

ولهم عذاب اليم ذلك بائنه كانت آياتهم رسوما

بالبينت فقالوا بشره وناذفكفروا ولو استغنى

الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يعثوا

قل بل وري لتبعن ثم لتنبون بما عملتم وذلك على الله

يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله

بات خدا کی آسان ہے۔ پھر اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور جس کو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ۔ اور اللہ

عالم زمین سے ہمارے ایمان لانے والے ہیں اور وہ ہمیں اس کی تعریف اور ہدایت کے لئے بھیجے گا۔

سنت

عالم زمین سے ہمارے ایمان لانے والے ہیں اور وہ ہمیں اس کی تعریف اور ہدایت کے لئے بھیجے گا۔

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ

جو تم گم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے جب وہ قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا یہی تو ہمارے لئے کادون

التَّغَابُنِ ۝ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کی بدیوں کو اس سے

وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

دور کر دے گا اور اسکو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ (جنت) بہتا رہے گا

ذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جنہم والہ

أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۝ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ مَا أَصَابَ

وہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جو وہی ہیں اور جہنم میں ہرگز نہیں رہیں گے خدا کے

مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۝

کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دے گا۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۝

اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا جانتے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ

پھر اگر تم روگرداں ہو جاؤ گے تو ہمارے رسول پر تو صرف پیغام کا کھول دینا واجب ہے۔ خدا ہی ہے سوا سوا

إِلَٰهًا هُوَ ۝ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور کوئی معبود نہیں۔ اور مومنوں کو لازم ہے کہ خدا ہی پر توکل کریں۔ اے ایمان لائے ہو!

آمَنُوا مِنَ الزَّكَاةِ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

یقیناً تمہاری بیبیوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض بعض ضرور تمہاری دشمن ہیں پس انہیں بھی

وَلَنْ تَغْفُوا ۝ وَتَصْفَحُوا ۝ وَتَغْفِرُوا ۝ وَإِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور اگر تم معاف کرو گے اور درگزر کرو گے اور بخشو گے تو بیشک اللہ بخشنے والا (اور) بزرگرم کرنے والا ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اور اس کی خوش خبری' and 'اور اس کی خوش خبری'.

Handwritten marginal notes in Urdu script, including 'اور اس کی خوش خبری' and 'اور اس کی خوش خبری'.

Handwritten marginal notes in Urdu script, including 'اور اس کی خوش خبری' and 'اور اس کی خوش خبری'.

Handwritten marginal notes in Urdu script, including 'اور اس کی خوش خبری' and 'اور اس کی خوش خبری'.

Handwritten marginal notes in Urdu script, including 'اور اس کی خوش خبری' and 'اور اس کی خوش خبری'.

انما اموالکم واولادکم فتنه ط والله عندہ اجر عظیم

سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد (تمہاری ہی) مالک بنا سز میں لے لے لے دی اس کا اس وقت بڑا اجر ہے

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا

پس جہاں تک تم سے بن چکے اللہ سے ڈرو اور (اسکی نصیحت) سنو اور (اسکے احکام) مانو اور اپنی ذات کی بہتری کے لیے

خیر الا نفیسکم و من یوق شئ نفسه فاولیک هم

(اسکی راہ میں) مال خرچ کرو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی کوئی سی بچا لیا یا پس وہی تو (پوری پوری) ظالم

المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضعفه لکم و

پانچواں ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسکو تمہارے لیے دو چند کر دے گا اور

یغفر لکم ط والله شکور حلیم علم الغیب

تمہاری گناہ بخشدے گا۔ اور اللہ بڑا قدر دان (اور بڑا بردبار ہے۔ کھلی اور چھپی کا

والشهادة العزیز الحکیم

جاننے والا زبردست (اور) صاحب حکمت ہے۔

سورة الطلاق تبت وھی ثنتا عشرة آیتا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن (د) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتھن و

اے نبی! جب تم نکاح خواتین کو طلاق دو تو انکے عہدہ کے (یعنی عین سے پاک ہو چکے) وقت طلاق

احصوا العدة و اتقوا الله ربکم لا یخرجوھن من

اور عہدہ کا شمار رکھو۔ اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ نہ تم انکو اپنے گھروں سے

بیوتھن ولا یخرجن الا ان یتین بفاحشۃ مبینة ط و

نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ انہوں نے کوئی کھلی عیاشی کی ہو۔ اور یہ خدا کی

بہت سی تفسیریں اور حواشی ہیں جو اس آیت کے گرد لکھی گئی ہیں۔

بہت سی تفسیریں اور حواشی ہیں جو اس آیت کے گرد لکھی گئی ہیں۔

بہت سی تفسیریں اور حواشی ہیں جو اس آیت کے گرد لکھی گئی ہیں۔

تِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

(مقرر کردہ) حدیں ہیں۔ اور جو خدا کی (مقرر کردہ) حدوں سے تجاوز کرے تو اسی نے اپنے آپ پر برقیقتاً ظلم کیا

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَخْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغَ

کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس (حقیقت) کے بعد شاید خدا کوئی بات پیدا کر دے (اور ملاپ ہو جاوے) پھر جب وہ

أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَوْفِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اپنی مدت پوری کر لیں تو ایامِ حینِ سلوک کے ساتھ روک لیا تو اس میں معقول طریقہ سے رخصت کرو اور

أَشْهَدُ وَأَذْوَىٰ عَدَلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

(وقتِ طلاق) اپنی میں دو عادل کو راہ کر لو اور (اسے گواہو!) (نتہ تم ٹھیک ٹھیک گواہی بنا ان کے)

يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ

اسکو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور جو شخص

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

اللہ سے ڈرے گا خدا تعالیٰ اس کے لیے پکاو کی راہ پیدا کرے گا۔ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے

يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ

اسکو گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بیشک اللہ ہر کام کو پورا

أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ وَالَّذِي يُكْسِنُ مِنَ الْحَيْضِ

کرنیوالا ہے۔ بیشک اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔ اور تہامی عورتوں میں سے جو حیض سے ایک

حیاتِ حتمہ ہرگز نہ چھوڑے گا اور اس میں شورشِ ثلثی کی رویت۔ اور اگر آئے پھلست نہیں کی ہے تو بھی ان دو میں رسولی کوئی باقی۔ اور شہرہ اول کے عدو کو ہوت باقی تھی وہ عورت کو پوری کر لینی ہوگی۔ ۱۲-۱۱

جنگ

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including the word 'جنگ' and various religious and legal commentary.

Handwritten marginal notes on the right side of the page, including the word 'جنگ' and various religious and legal commentary.

انزل له الحکم دو من یتق الله یکفر عنه سیاتہ و یعظم

جو آئے تمہاری بے ایمان ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اُسکی بدیاں اُس کو دور کر دے گا اور اُسکے لیے اجر

له اجرا۔ استکنوا من من حیث سکنتم من

کو بڑھا دے گا۔ مطلقہ عورتوں کو جسے الامکان وہیں رکھو جاں تم رہتے ہو

و جدکم ولا تضاروا و هن لتضیقوا علیہن و ان کن

اور تنگ کرنے کی غرض سے نہیں سبکدوش نہ پہنچاؤ۔ اور اگر وہ

اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملهن فان

حاملہ ہوں تو جب تک انکا وضع عمل نہ ہو جائے انہیں خرچ دینے رہو۔ پھر اگر

ارضعن لکم فاتوهن اجورهن واتمروا بکنکم

وہ تمہاری بیوہ و دھ بچائیں تو انکی اجرت انکو دینے رہو۔ اور آپس میں حسن سلوک سے

یمعروا و ان تعاسرتم فسرر ضعه لہ اخری لیتفق

معاہدہ کرو۔ اور طرفین سے تم میں کشمکش ہو تو مردکی طلاق (مگر کو کوئی اور عورت نہ دھ بلاؤ۔ تاکہ تقدیر طلاق

ذو سعۃ من سعۃ و من قدر علیہ رزقہ فلینفق

اپنی مقدور بھر خرچ کرے۔ اور جس کی روزی تنگ ہو تو اُس کو لازم ہے کہ اسکی زوجہ کو کھانا

مما اشاء الله و لا یكلف الله نفسا الا ما اطاق سبیل

اسی کو مطابق خرچ کرے۔ اور اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنا کہ اسکو عطا فرمایا ہو مقرب

الله بعد عسر یسرا و کاتین من قریۃ عنت عن امر

اللہ تعالیٰ اسکی کو بعد فراخی عطا فرمائے گا۔ اور کتنی ہی بستیوں نے اپنی پروردگار اور اسکے رسولوں کے علم

ربہا و رسلیہ فحاسبنا حسابا شدیدا و عدنا بنہا

سے سزا دینی کی پھر ہم نے بھی بڑی سختی سے انکا امتحان لیا اور جنے عذاب بھی انکو نوکھا

عدا یا نکران فذاقت وبال امرها و کان عاقبہ امرها

عذاب دیا۔ پھر انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھا اور انکو سزا کا انجام تقاضا ہی نصیب

ترجمہ: انزل له الحکم دو من یتق الله یکفر عنه سیاتہ و یعظم له اجرا۔ استکنوا من من حیث سکنتم من و جدکم ولا تضاروا و هن لتضیقوا علیہن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن واتمروا بکنکم یمعروا و ان تعاسرتم فسرر ضعه لہ اخری لیتفق ذو سعۃ من سعۃ و من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما اشاء الله و لا یكلف الله نفسا الا ما اطاق سبیل الله بعد عسر یسرا و کاتین من قریۃ عنت عن امر ربہا و رسلیہ فحاسبنا حسابا شدیدا و عدنا بنہا عدا یا نکران فذاقت وبال امرها و کان عاقبہ امرها عذاب دیا۔ پھر انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھا اور انکو سزا کا انجام تقاضا ہی نصیب

ترجمہ: انزل له الحکم دو من یتق الله یکفر عنه سیاتہ و یعظم له اجرا۔ استکنوا من من حیث سکنتم من و جدکم ولا تضاروا و هن لتضیقوا علیہن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن واتمروا بکنکم یمعروا و ان تعاسرتم فسرر ضعه لہ اخری لیتفق ذو سعۃ من سعۃ و من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما اشاء الله و لا یكلف الله نفسا الا ما اطاق سبیل الله بعد عسر یسرا و کاتین من قریۃ عنت عن امر ربہا و رسلیہ فحاسبنا حسابا شدیدا و عدنا بنہا عدا یا نکران فذاقت وبال امرها و کان عاقبہ امرها عذاب دیا۔ پھر انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھا اور انکو سزا کا انجام تقاضا ہی نصیب

حَسْرًا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ

ہوا۔ اللہ نے انکے لیے سخت عذاب تیار فرمایا ہے جس اے صاحبان عقل! جو

يَاۤوْلِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا

ایمان لاکچے ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کر

رَسُولًا لِيُنزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ أَمْرِ رَبِّكُمُ الَّذِي هُوَ لَكُمْ

بجھا ہے جو تم کو خدا کی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ

لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال لائے۔ اور

مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اسکو ایسی جنّتوں میں داخل کرے گا

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ طَيِّبَاتُ اللَّهِ

جگہ نیچے نہیں بنتی ہوتی وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں والے ہوتے۔ یقیناً اللہ نے ایسے شخص کو لیے

لَهُ رِزْقًا ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ

اچھا رزق مہیا فرمایا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور انہی کے

الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ طَبَقَاتٍ ۚ الْأَمْرُ لِلَّهِ وَالْحُكْمُ

برابر زمینوں کو۔ حکم خدا انہی میں سے ہو کر نازل ہوتا ہے۔

لِلَّهِ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ

تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر (پوری پوری) قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ

(اپنے) علم سے ہر چیز کا ضرور احاطہ کر لیا ہے۔

سورة التحريم مكيه وهي ثنتا عشرة آية

عنا بفتح العين

۲۵

قدیم اللہ نے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ضرور احاطہ کر لیا ہے۔

میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ضرور احاطہ کر لیا ہے۔

بجھ کر



اس آیت اور زمینوں میں ہوتا ہوا اتر کر اس کے پاس پہنچتا ہے۔ (اس پوری حدیث کے لیے دیکھو صفحہ ۸۳۱۔ نوٹ نمبر ۱۲) ش ش ش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرَّمَ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ

اسے نبی! جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے تم اس کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشنودی

أَزْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ ۚ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ

چاہتے ہو؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا (اور) بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خدا تمہارے لئے تمہارے لیے (کفار) تمہاری

تَحِلَّةٍ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

قسموں کا توڑ دینا مقرر فرما دیا ہے۔ اور اللہ تمہارا مالک ہے۔ اور وہ بڑا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔

وَإِذَا سَأَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ زَوْجِهِ حَدِيثًا فَلَمْ يَأْتِ بِت

اور جس وقت نبی نے اپنی کسی زوجہ سے ایک بات بطور راز کہی اور اُس نے اُس راز سے کسی اور کو آگاہ

بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ

کر دیا اور اللہ نے اپنی پری سے معاملہ کھول دیا تو نبی نے کچھ حصہ تو اس کا جھلایا اور کچھ حصہ سے چشم پوشی کی۔

بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ

پھر جس وقت نبی نے اُس (عورت) کو اس سے مطلع کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ فرمایا

نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۚ إِنَّ تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ

جھک کر بڑی جانچنے والے (اور) بڑی خبردار نے خبر دی۔ اگر تم دونوں خدا کی حضور میں توبہ کر لو (تو بہتر ہے) ایسے تم دونوں کو

قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِنْ تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ

حق سے ضرور خوف ہو گئیں۔ اور اگر تم دونوں ہمارے رسول کے برخلاف ایک دوسرے کی پشت و پناہ بنو تو

وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ

اللہ اور جبریل اور صالح المؤمنین اُس کے مددگار ہیں۔ اور بعد اس کے قریشی اُس کی

ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۚ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَقْتُمْ أَنْ يُبَدِّلَهُ

پشتی پر ہیں۔ اگر وہ تم کو طلاق دیدے تو قریب ہے کہ اُس کا پروردگار بدلے میں اُس کو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرَّمَ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ
أَزْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ ۚ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحِلَّةٍ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
وَإِذَا سَأَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ زَوْجِهِ حَدِيثًا فَلَمْ يَأْتِ بِت
بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ
بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ
نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۚ إِنَّ تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ
قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِنْ تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ
ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۚ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَقْتُمْ أَنْ يُبَدِّلَهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرَّمَ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ
أَزْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ ۚ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحِلَّةٍ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
وَإِذَا سَأَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ زَوْجِهِ حَدِيثًا فَلَمْ يَأْتِ بِت
بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ
بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ
نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۚ إِنَّ تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ
قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِنْ تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ
ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۚ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَقْتُمْ أَنْ يُبَدِّلَهُ

ازواجاً خیراً امکن مسلمات مؤمنات قننت

ایسی ازواج دیدہ سے جو تم سے بہتر ہوں فرمانبرداری کرنیوالیاں۔ ایمان والیاں۔ اطاعت کرنیوالیاں

تبیات عیدات سحیح تبت و آبکارا ۱ یا ایہا

توبہ کرنیوالیاں عادت کرنیوالیاں روزہ رکھنیوالیاں شوہر دیدہ اور کنواریاں۔ اے

الذین امنوا اقوا انفسکم و اہلبکم ناراً و قودھا

ایمان لانیوالو! اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جسکا ایندھن

الناس و الحجارة علیہا منلکہ غلاظ شداد لا یعصون

آدمی ہیں اور پتھر اُس پر نہایت تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو خدا تعالیٰ کی

اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون ۱ یا ایہا الذین

کسی بات میں جسکا وہ نکلو حکم دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتی اور جس بات کا نکلو حکم دیا جاتا ہے وہی بجالاؤں۔ اے

کفر و الا تعتذرو و الیوم مرانما تجزون ما کنتم

وہ لوگو جو کافر ہو گئے ہواؤں کو دن تم کوئی عذر نہ کرو سو اسی کے نہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ

تعملون ۱ یا ایہا الذین امنوا اتوبوا الی اللہ توبۃ

دیا جاتا ہے۔ اے ایمان لانیوالو! خدا کی حضور میں اتر پڑو توبہ کرو

تصوحاً عسی ربکم ان یتکفر عنکم سیئاتکم

تزیب ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے

و یدخلکم جنت تجری من تحتھا الانہر یوم لا یحزی

اور تم کو (اُس دن) ایسی جنتوں میں داخل کرے جگہ جگہ نہریں ہتی ہوں گی (اِس دن) جس دن نہریں

اللہ التبی والذین امنوا معہ نور ہم یسعی بین

ہتی کو اور اُن لوگوں کو جو انکے ساتھ ایمان لائے ہیں (سوائے کہ گناہ انکا فوراً ان کے سامنے اور انکے

ایدبہم و یا یمانہم یقولون ربنا اتم لنا نورنا

دائیں ہاتھ چیلنا ہوگا اور وہ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار! (تو ہمارے نور کو ہمارے کسی پروردگار سے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'ایسی ازواج دیدہ سے جو تم سے بہتر ہوں' and 'ایمان لانیوالو! اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ'.

Main body of handwritten text, likely a commentary or translation of the Quranic verses, written in Urdu script.

Handwritten marginal notes on the right side of the page, continuing the commentary or providing additional context.

وَاعْفِرْ لَنَا عَنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

اور ہمارے گناہ بخشدے۔ بیشک تو ہر چیز پر (پوری پوری) قدرت رکھو والا ہے۔ اسے نبی تم

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ

کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اور انکا ٹھکانا

جَهَنَّمَ وَيَلْسُ الْمَصِيدُ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ

جہنم ہے۔ اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو گئے ہیں

كُفَرُوا وَأَمْرَاتٌ نُورٌ وَأَمْرَاتٌ لُّوطٌ كَانَ تَحْتِهَا عِبْدَانِ

نور کی زوجہ کی اور لوط کی زوجہ کی مثل بیان کی ہے۔ کہ یہ دونوں ہمارے بندوں میں کر دو

مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَآتَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ

نیک بندوں کی ماتحت تھیں پھر ان دونوں نے ان دونوں کو حق میں خیانت کی پس وہ دونوں خدا کو عذاب

اللَّهُ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝ وَضَرَبَ

خدا نے ان دونوں کو کچھ بھی اسی نام نہ آئی اور ان دونوں کو یہ کہا جائیگا کہ تم بھی جانیوالوں کے ساتھ ساتھ جہنم میں چلی جاؤ۔ اور

اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۝ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ مَدَاذُ قَالَتْ

نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں فرعون کی زوجہ کی مثل بیان کی ہے کہ جس وقت اسے یہ عرض کی کہ

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ

اگرچہ یہ درگاہ میری لہو اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دے اور مجھ کو فرعون سے اور اسکی بھاری سے

وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَفَرِيضَاتُ

نجات دے اور مجھ کو نافرمان لوگوں کو ہاتھ سے چھٹکارا دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی (مثل بیان کی ہے)

عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَاهُ مِنْ رُوحِنَا وَوَجَّعْنَا

جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونکی تھی اور وہ اپنی

صَدَقَاتٍ يَكَلِّمُنَّ بِهَا وَكُتِبَ عَلَيْهِنَّ مَا لَبَسْنَ مِنَ الْقَنَاطِيرِ

پروردگار کے کلمات کی اور اسکی کتابوں کی تصدیق کیا کرتی تھی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔

میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونکی تھی اور وہ اپنی صدقات سے کلمات کی اور اسکی کتابوں کی تصدیق کیا کرتی تھی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔

میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونکی تھی اور وہ اپنی صدقات سے کلمات کی اور اسکی کتابوں کی تصدیق کیا کرتی تھی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔